

15. Mayıs. 1967

ORHAN ŞAIK GÖKYAY

KAYIŞDAĞI CAD. 124/1

GÖZTEPE - İSTANBUL

TDV İSAM
Kütüphanesi Arşivi
No 059-170/1

حکمت

يا زيارتي اورندرم ، وقتله . بدياري كه نه كآ چيه ن آلمه ، الله بر آماج و بلكه نيرودگي عدول اوفيه دارم .
سزگمه بديندي كه روستايم زمان عقلمه گله اندينه لول بدي ناره بر بديني نيزدوليك سديله كيم . نيم گون
در ساره گله ميدم . صالي گون عقلمه روستايم كلومي راه آچيه اكلامه بيم حكيمه حابيدم . فقط سيمه بيم
فخرتت دادا كيره جا يازيرك صدر رملولني آلامه حيرت آكللام رديني اورنك اواره سه ره بر يازي ايله بيله بريم .
ظرفت اچينه عقمه كيسي اورنسه اولاچيني حابيم . نيم اچيه كندران نيزه باشق و كندران مامحتن باشق
كيسه به ديمه بيله ن ديا بيلمه يرك آلت اولمه بيمه . ان نيمه روستايم لول اچينه نيزه باشق سه يا ايله
بر عقلمه كيره يا قدره بيله برني سزاسم . حقه ديا حقر ، نيا اوره بيم غم . نيزه راه آچوه سي
ته آورنيا عاقبه سقدن دوخا نلني . نه ره سقدن نايه الا حيرت بر باشق دولت روي نلني . نيساره
كندران مامحتن و كندران نيل و كندران نيمه ايتيم . اگر حقه آلت نلله گد سزاسم بيم
مالي رويورمه كي آتيري حاسيه با عياليم حيرت اورم . يازيرك اولديني كي گد سزاسم بيم .

سلام و ديدار

Orhan Şaik Gökyay

باشنده اربابان - I دن حكمت بديني و اورنله حقه نيمه ايتيم ن " آلف " آردى ريه ايتيم ن
يا ايتيم كه كده حقر ، صدر و بديني آلامه حيرت بيله بره اوره . كنده يازيرك نيزه باشق سزاسم بيم . اورنك
اداره نيزه به سوليتي و ايتيم بيم نيمه . نيمه يازي ايله بيله بريم .

Türk Dil Kurumu'nun ~~şvkwkvx~~ Tarih Kurumu'yla ortak bir kuruluşa bağlanmasını nasıl karşılıyorsunuz?

2- Yasayla oluşturulan yeni kurumun çalışması konusunda önerileriniz?

Yarım daktilo sayfası
cuma öğlene kadar

TDV İSAM
Kütüphanesi Arşivi
No 089-170/2

"Öğne" kelimesi, Göksun'un -Değirmendere
köyünde güveyi anlamında kullanılmaktadır.
" --- öğnesi geliyor, Yakışıklı öğnesi var. v.b.

gibi>>

Veli Kışioğlu

TDV İSAM
Kütüphanesi Arşivi
No 059-170/3

"Özne ve Öznesik.."

TDV İSAM
Kütüphanesi Arşivi
No 088-170/4

Maras - Türkoğlu ilçesine bağlı bir yer ismidir.

Faruk Faksoy

Hacce kıran düğünü olacaktı. Davullar çalmaya başlar. Hatice çok düşüncelidir. Annesi bunun sebebini sorar. O da "Ben öleceğim galibandır. "Eğer ölürsem düğün olayını baş göndermeyin küçük kardesimi verin" der. Hatice biraz sonra ölür. Annesi şu ağıdı söyler.

Kapısında ağı çardağı
Elinde gümüş bardağı
Varın söylen öznesine
Beklemesin baş gerdegi.

Olay, Kozan ilçesine bağlı bir köyde geçer.

İsmail Hakkı Özerin

TDV İSAM
Kütüphanesi Arşivi
No 059-170/5

Yetkinize yetemeyiz

Prof. Dr. Ö. M. Hatiboğlu

(27 Mayıs 1965

Toplantısı)

۱۱ ۹۶۸

عبارت ادرجات

Conclusion
ادواتی که در آن وقتها تک صدقه اکتفا
اینکه در آن ادواتی که در آن وقتها تک صدقه اکتفا
و قوتی است

ادواتی که در آن وقتها تک صدقه اکتفا

TDV İSAM
Kütüphanesi Arşivi
No 059-170/6

Kelime Türetme Yarkurulu Raporu

TDVİSAM
Kütüphanesi Arşivi
No 059-170/7

Kelime Türetme Yarkurulu haftada bir toplanarak çalışmış, şu işleri yapmıştır :

1- Belli başlı kaynakları taratarak Türkçeleştirilmesi gereken yabancı kelimelerin bir listesini hazırlamıştır.

2- Bu listeyi F harfine kadar gözden geçirerek, Türkçeleştirilmesi öncelikle ele alınacak kelimelerin listesini yapmıştır.

3- Bu listedeki kelimelerin Türkçe karşılıklarını aramaya başlamıştır. Şimdiye kadar bulunan karşılıkları sunuyoruz. Bunlar, Yönetim Kurulu üyelerinin düşünceleri alındıktan sonra önce öneri niteliğinde yayımlanarak sorduğumuz sorulara sunulacak; gelen cevaplar incelendikten sonra kesin biçimlerini alacaktır.

<u>Yabancı Kelimeler</u>	<u>Karşılıkları</u>
akraba	hısım
adabı muaşeret	toplum töresi, yolyordam
ahîren	yenileyin, son günlerde
aktüel	güncel
aktüalite	güncel olay, güncellik
ambale olmak	kafası durukmak
anarşi	kargaşa
anarşist	erk tanımaz, kargaşacı
anarşizm	erk tanımazlık, kargaşacılık
angarya	yüklemce, yüklemce
normal	olağan, düzgülü
anormal	sapak, olağan dışı, düzgüsüz

<u>Yabancı Kelimeler</u>	<u>Karşılıkları</u>
anten	duyurga (verici anten), duyurga (alıcı anten)
apartman	katev
aritmetik	sayıbilim
arşiv	belgelik
asansör	ağmaç, ağincak
asistan	bilimyar
asîl	soylu, soydan
aşk	sevi, tutku
âşık	seven, tutkun, vurgun, yangın
etüt	araştırma
kalorifer	ışıtmaç
ampul)	
kandil)	ışıtmaç, ışılgi
lâmba)	
Projeksiyon	ışıtmaç
Reflektör	yansıtmaç
muhabbet	sevgi
Prospektüs	tanıtmalık
hesabetmek	(alacağı vereceği) sayınlamak
müdevvenat	dergileme, derginleme, dergeleme
düstûr	dergin, derge
sakin	dingin
Tahakkuk ettürmek	(vergi) belirlemek
Tarh etmek (vergi)	vergilendirmek, (vergi) kesmek, koymak

TDV İSAM
Kütüphanesi Arşivi
No 059-170/7